

106496 - ڈاکٹروں نے مستقل طور پر روزہ رکھنے سے منع کر دیا لیکن پانچ برس بعد شفایابی

نصیب ہو گئی

سوال

ایک شخص دائمی بیماری کا شکار تھا تو ڈاکٹر حضرات نے اسے مستقل طور پر روزہ رکھنے سے منع کر دیا، لیکن اس شخص نے دوسرے ملک کے ڈاکٹر حضرات سے علاج کرایا تو اللہ نے پانچ برس بعد شفایاب کر دیا۔ اب اس نے پانچ برس رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے آیا وہ ان کی قضاء کریگا یا کہ نہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله:

" اگر اسے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دینے والے ڈاکٹر مسلمان اور بااعتماد تھے اور انہیں اس مرض کا بخوبی علم بھی تھا، انہوں نے غور و خوض کے بعد اسے بتایا کہ وہ اس سے شفایاب نہیں ہو سکتا، تو اس شخص پر پچھلے پانچ برس کی قضاء نہیں ہے۔

بلکہ اسے ان ایام کا فدیہ دینا ہوگا، اور مستقبل میں وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا " انتہی

فضیلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله